

وَ كَائِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ

فَحَاسَبْنَآهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَ عَذَّبْنَآهَا عَذَابًا نُّكْرًا

(8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

(9) أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10)

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ

آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ

مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ

أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)

How many populations that insolently opposed the command of their Lord and of His messengers, did We not then call to account,- to severe account?- and We chastised them with a horrible chastisement. Then did they taste the evil result of their conduct, and the end of their conduct was perdition. Allah has prepared for them a severe punishment (in the Hereafter). Therefore fear Allah, ye men of understanding- who have believed!- For Allah hath indeed sent down to you a Message,- A Messenger, who rehearses to you the signs of Allah containing clear explanations, that he may lead forth those who believe and do righteous deeds from the depths of darkness into light. And those who believe in Allah and work righteousness, He will admit to gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for ever: Allah has indeed granted for them a most excellent provision. Allah is He who created seven firmaments and of the earth a similar number. Through the midst of them (all) descends His command: that ye may know that Allah has power over all things, and that Allah comprehends, all things in (His) knowledge.

کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی

کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے

کیے کامز اچھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اللہ نے (آخرت میں) ان

کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لو جو جو

ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا

رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان

لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے

آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اُسے ایسی جنتوں میں

داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ

رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس

نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند۔ ان کے درمیان

حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ (یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے) تاکہ تم جان لو

کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

کितنی ہی بستیوں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور उसके رسولوں کے حکم

سے سرتاہی کی تو ہم نے ان سے سخت مواصبا کیا اور ان کو بڑی

ترہ سزا دی | انہوں نے اپنے کئے کا مزا چھ لیا اور ان کا

انجام کار غاتا ہی غاتا ہے، اللہ نے (آخرت میں) ان کے لیے

سخت اجاب مہیا کر رکھا ہے | پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لو جو جو

ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا

कर दी है, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ़-साफ़ हिदायत देनेवाली आयात सुनाता है ताकि ईमान लानेवालों और नेक अमल करनेवालों को तारीकियों से निकालकर रौशनी में ले आए | जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी | ये लोग उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे | अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिजक रखा है | अल्लाह वह है जिसने सात आसमान बनाए और ज़मीन की किस्म से भी उन्हीं के मानिन्द | उनके दरमियान हुक्म नाज़िल होता रहता है | (यह बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है) ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और यह कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है |